

برائے فوری اجراء

بعد از ثانوی تعلیم کے حوالے سے برامپٹن اضافی آپشنز کی چھان بین کر رہا ہے

برامپٹن، آن (25 ستمبر 2019) - کونسل کی ترجیحات کی مطابقت سے، سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے ممکنہ امکانات کے حوالے سے اپنی کوششوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ آج، برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع میں اضافے کے حوالے سے کوئی ٹھوس حل تلاش کرنے کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے، سٹی کونسل نے ایک متفقہ اقدام اٹھایا ہے۔

برامپٹن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے سٹی کا عملہ تمام امکانات کا جائزہ لے گا، بشمول درج ذیل:

- برامپٹن یونیورسٹی کو چلانے اور طلباء کے لیے رہائش کی ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے عمارتوں کی تیاری، مرمتی اور بحالی کے عمل میں پبلک - پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جائزہ لینا
- برامپٹن یونیورسٹی کے قیام میں حکومتی سطح پر معاونت حاصل کرنے کے لیے صوبائی اور قومی سطح پر حکومتی حمایت کے حصول کو معقول مطالبہ ثابت کرنے کی کوششیں کرنا
- ایک ایسے بزنس کیس اور پروگرامنگ کے امکانات کو متعین کرنا جس میں آجرین کی حالیہ اور مستقبل کی ضروریات کی عکاسی کی گئی ہو

بعد از ثانوی تعلیم کے موجودہ شراکت داروں بشمول ریئرسن یونیورسٹی، الگوما یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ طویل مدتی تعلقات استوار رکھنے کے لیے سٹی پر عزم رہے گا۔ یہ تمام مصدقہ اور انتہائی قابل قدر ادارے ہیں جو تسلسل کے ساتھ برامپٹن کی بڑھوتی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور رہائشیوں کے لیے نئے آپشنز بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت سے ہمیں کلیدی نوعیت کی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، بشمول:

- سٹی ہال ویسٹ ٹاور میں چیننگ سکول فار کانٹینٹوننگ ایجوکیشن کورسز کا قیام عمل میں لانا
- راجرز سائبر سیکیور کیٹالسٹ کا اعلان - سٹی ہال سے باہر چلایا جانا
- ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں الگوما یونیورسٹی کے فزیکل فٹ پرنٹ اور پروگراموں کی پیشکش میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ہونا
- سٹی کی ڈاؤن ٹاؤن کو-ورکنگ/انکوبیٹر جگہ پر اشتراکیت کے لیے ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدہ پر پہنچنے کے لیے کام کرنا

اقتباسات

"صوبہ بعد از ثانوی تعلیم کے ایسے نئے ماڈلز کے بارے میں سننے اور ان کو معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے جو قابل احتساب ہوں، طلباء کو ترجیح دیتے ہوں اور آجرین کی توقعات کے عین مطابق ملازمتوں کی تربیت فراہم کرنے پر مرکوز ہوں۔ برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے والے ایسے اہل فریقین کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے جو رہائشیوں، طلباء، کاروباری اداروں اور کمیونٹی کی ضروریات کو پوری کرتے ہوں اور سٹی کو مواقع کا شہر بنانے میں مدد فراہم کر سکیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، میئر آف برامپٹن

"برامپٹن اونٹیریو میں ایک انتہائی متحرک، مرتعش اور سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے والی کمیونٹی کا شہر ہے۔ اپنی فیملی کی پرورش اور ترقی کے مواقع کی تلاش کے حوالے سے ہمارے پیارے صوبے میں اس سے بہتر دوسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مستقبل میں ہمارے شہر کی ترقی کے لیے تعلیم کا کردار ایک بڑے محرک کے طور پر جاری رہے گا اور برامپٹن کے طلباء خوش قسمت ہیں کہ انہیں اپنی تعلیمی ترقی کے لیے شاندار مواقع تک رسائی حاصل ہو گی اور وہ یہاں رہ کر اپنے مستقبل کو بہتر طور پر سنوار سکتے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن کی جانب سے یونیورسٹی کے قیام کی تجویز کو ایک بامعنی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے، میں پارلیمنٹری اسسٹنٹ ڈیوڈ پیکیینی اور اس کی ٹیم کے ساتھ منسٹری آف ٹریننگ، کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں مزید بات چیت کرنے کے لیے منتظر ہوں۔"

- عزت مآب جناب پریمیت سرکاریہ، ممبر آف پروویسینل پارلیمنٹ، برامپٹن ساؤتھ اینڈ ایسوسی ایٹ منسٹر آف سماں بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریڈکشن

"ہماری حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ پورے صوبے کے طلباء کو اعلیٰ معیار کی بعد از ثانوی تعلیم تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس دہندگان اور ان کے ٹیکسوں کی قدر کریں جس میں اس بات کو

یقینی بنانا شامل ہے کہ ہمارے تمام پروگرام مؤثر، کارگر اور ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے مخصوص ہونے چاہیں۔ ہم پارلیمنٹری اسسٹینٹ ڈیوڈ پیکیینی کے ساتھ مل کر کام کرنے اور آنے والے مہینوں کے دوران برامپٹن میں یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے برامپٹن کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدامات پر پیش رفت کرنے کے لیے منتظر ہیں۔"

- امرجوٹ سندھو، ممبر آف پروویٹیشنل پارلیمنٹ، برامپٹن ویسٹ

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca